



ایک تعارف

شراکت داروں، ریفر کرنے والوں
اور شرکاء کے لیے

ہم سے رابطہ کریں

Opportunity and Change کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے
کے لیے برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا ہمیں کال کریں۔

فون: 0115 850 4086


ویب سائٹ: www.opportunityandchange.org

اگر آپ کوئی ریفرل بھیجنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ای میل کے ذریعے ہم
سے رابطہ کریں:

ای میل: opportunityandchange@frameworkha.org

ہمارے شراکت دار

جن علاقوں میں ہم آپ کو معاونت/سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔



اکتوبر 2020

”اس سروس نے میری زندگی کے ایسے سخت اور مایوسی کے وقت میں میری مدد کی۔
اس کے بغیر میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوتا۔ میں ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں۔“

اہلیت

اس پراجیکٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کتابچے کے صفحہ 2 پر بیان کردہ کم از کم دو مسائل کا سامنا کر رہے ہوں۔ شرکاء کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ یوکے میں کام کرنے کا حق رکھتے ہیں اور وہ یا تو بے روزگار ہیں یا معاشی طور پر غیر فعال ہیں۔

اس کے ثبوت میں شامل ہیں:

- پاسپورٹ
- مکمل یا مختصر یوکے کا پیدائشی سرٹیفکیٹ
- موجودہ ہائیو میٹرک امیگریشن دستاویز (ہائیو میٹرک ریڈیڈنس پرمٹ)
- قومی شناختی کارڈ (EEA)

شرکاء کے معاونتی اخراجات جو پراجیکٹ ادا کرے گا، ان میں شامل ہیں:

- بچوں کی دیکھ بھال
- ترجمانی اور ترجمہ
- سفر
- تبدیلی کے منصوبہ پر نشاندہی کردہ اہداف کو پورا کرنے میں مدد دینے کے لیے ایک دفعہ کی اشیاء

”نیویگیٹر اور دیگر معاونتی عملہ بہت ہمدرد رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ان سے اپنے اور اپنے مسائل کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔“

04

پراجیکٹ کا مقصد

اس منصوبے کا مجموعی مقصد پورے D2N2 میں ایک سے زیادہ اور پیچیدہ ضروریات کے حامل لوگوں کی مدد کرنا ہے تا کہ وہ تعلیم، ٹریننگ اور ملازمت تک رسائی کے ذریعے معاشرتی اور معاشی طور پر شامل ہوں۔

Opportunity and Change ان لوگوں کو جو لیبر مارکیٹ سے بہت دور ہیں ان کی پیچیدہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ملازمت کی پیش کش کرتی ہے۔

شرکاء کو ایک ذاتی ’نیویگیٹر‘ تفویض کیا جاتا ہے جو انہیں ترقی کرنے میں مدد دینے کے لیے انہیں مختصر اور طویل مدت کے اہداف کی نشاندہی کرنے، ’تبدیلی کا منصوبہ‘ تشکیل دینے، اور اپنی مقامی کمیونٹی میں مختلف اقسام کی خصوصی معاونت تک رسائی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ Opportunity and Change کے شرکاء کو دستیاب کچھ خصوصی سروسز اور اقدامات میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

- Skills Plus for Change: ضرورت کے مطابق تیار کردہ ایک ٹریننگ پیکج جس میں ملازمت، ذاتی ترقی، خوشحالی اور آزادانہ زندگی کا انتظام کرنے کے متعلق چھوٹے چھوٹے حصوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔
- The Loudspeaker Programme: 10 ہفتے کا ایک پروگرام جو Nottingham Contemporary چلاتا ہے۔ گروپ پر مبنی سیکھنے، تخلیقی صلاحیتوں کی مشقوں، ذاتی عکاسی اور عصری فن کی تعریف کے ذریعے، لاؤڈ سپیکر شرکاء کو اپنی عزت نفس اور خود شناسی بڑھانے اور صحت مندانہ زندگی کے انتخاب کے لیے مہارتوں کو فروغ دینے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔
- Care Act Team: سوشل ورکرز کی ایک محنتی ٹیم جو شرکاء کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تا کہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ انہیں کیئر ایکٹ (2015) کے تحت فراہمی کے لیے اہلیت کے جائزے تک منصفانہ رسائی حاصل ہو۔

”میرے نیویگیٹر نے مجھے متعدد خدمات سے متعارف کرایا جن سے میں پہلے آگاہ نہیں تھا اور جن میں کورسز اور دماغی صحت سے متعلقہ معاونت بھی شامل ہیں۔“

03

Opportunity and Change (ایرچونٹی اینڈ چینج) کے بارے میں

Opportunity and Change، فریم ورک کی رہنمائی میں، ایک سے زیادہ اور پیچیدہ ضروریات کے حامل لوگوں کے لیے روزگار سے متعلق معاونت کا ایک منصوبہ ہے۔ یہ پورے D2N2 (ڈاربی، ڈاربی شائر، نوتنگھم اور نوتنگھم شائر) کی کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کی شراکت کے ذریعہ چلایا جا رہا ہے۔

یہ پراجیکٹ ان افراد کو مدد فراہم کرتا ہے، جن کا شرکاء کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، جو مندرجہ ذیل میں سے کم از کم دو مسائل کا سامنا کر رہے ہوں۔

- بے گھر ہونا یا غیر محفوظ رہائش پذیر
- منشیات یا شراب کے بے جا استعمال کے پریشان کن مسائل
- جرم کرنا یا دوبارہ جرم کرنے کے خطرے میں ہونا
- دماغی صحت سے متعلقہ مسائل
- گھریلو بدسلوکی

یہ منصوبہ Building Better Opportunities (BBO) پروگرام کا ایک حصہ ہے، جسے یورپی سوشل فنڈ (ای ایس ایف) اور نیشنل لائٹری کمیونٹی فنڈ سے مالی مدد ملتی ہے۔

”مجھے جو معاونت اور مدد ملی ہے اس نے مجھے اپنے آپ کو دوبارہ تلاش کرنے، اور کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ پر یقین کرنے میں مدد دی ہے۔“

02